

مکاتیب و مراسلات

① محترم مدیر ماہنامہ 'محدث' لاہور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
'محدث' ایک ایسا جریدہ ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو خالص علمی انداز میں دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق پیش کر رہا ہے۔ اللہم زد فزید! (آمین)
'محدث' ان رسائل میں شامل ہے جو صائب الفکر اور مستقیم العمل افراد کی تیاری کے لئے با مقصد محنت کر رہے ہیں لیکن اس کا انداز بہر حال جد اور اپنی جگہ بڑا مفید اور اہم ہے۔
دورِ حاضر میں جب کہ الحاد، دین بیزاری اور حیا دیدگی کی سیاہی عام ہوتی جا رہی ہے، 'محدث' جیسے نورِ وحی کو عام کرنے والے رسائل پہاڑی پر روشن چراغ کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ حوالے اور استفادے کے لحاظ سے یہ پرچہ میرے قلمی اور تبلیغی کام کے لئے اہم معاون کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشربہ علم و حکمت لائبریری سے استفادہ کرنے والی خواتین اور طالبات بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں۔

اس کے سرپرست و بانی، مدیر محترم اور دیگر تمام معاونین کے لئے فکری و قلبی نیز علمی و عملی استقامت کے لئے ربِّ کریم سے دعا گو ہوں۔ [اُمّ عبد منیب، اعوان ٹاؤن، لاہور]

② محترم چیف ایڈیٹر، حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ!
جنوری ۲۰۱۱ء کی سردہواؤں میں جناب محمد عطاء اللہ صدیقی کا ایمانی روح کو گرمانے اور جذبات کو تڑپا دینے والا مضمون 'محدث' میں پڑھنے کا موقع ملا۔ صدیقی صاحب کے قلم کی جولانیوں سے ٹپکنے والے الفاظ جو اول تا آخر، سر تا پا غلامی مصطفیٰ ﷺ کا چوغہ پہننے ہوئے تھے، زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہم بے جان سہی مگر سرکارِ مدینہ ﷺ کی عظمت اور آپ کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ جناب محمد عطاء اللہ صدیقی نے دنیا بھر میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص محمد مصطفیٰ ﷺ کے چاہنے والوں اور ان کی راہوں میں دیدہ و دل فرس راہ کرنے والوں کے جذبات کو اپنی قلم کی مہارت سے جو ان پر اللہ کی خاص دین ہے، اس مضمون میں بڑے اچھے طریقے پر بیان کرنے کی سعی فرمائی ہے۔ ان کی اس